



THE NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

Tuesday, the 21st January, 2025

TABLE OF CONTENTS

1. RECITATION FROM THE HOLY QUR`AN.....	3
2. RECITATION OF HADITH	4
3. RECITATION OF NAAT.....	4
4. NATIONAL ANTHEM.....	4
5. FATEHA PRAYERS	5
6. LEAVE OF ABSENCE	5
7. CALLING ATTENTION NOTICE REG: PERSISTENT GENDER GAP BETWEEN MALE AND FEMALE VOTERS, WHICH CONTINUES TO EFFECT WOMEN’S FULL PARTICIPATION IN THE ELECTORAL PROCESS	11
8. CALLING ATTENTION NOTICE REG: SHORTAGE OF MEDICAL EQUIPMENT, INCLUDING ESSENTIAL ITEMS LIKE VENTILATORS, TESTING MACHINES AND GENEXPERT SYSTEM IN PIMS, ISLAMABAD, THE FEDERAL GOVERNMENT POLYCLINIC, ISLAMABAD AND OTHER FEDERALLY ADMINISTERED HOSPITALS	17
9. THE QANUN-E-SHAHADAT (AMENDMENT) BILL, 2025.....	19
10. THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2025 (ARTICLE 59)	20
11. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT	22
12. REPORT ON THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2024 (ARTICLE 27)	22
13. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT	23
14. REPORT ON THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2024 (ARTICLE 51,59, 106)	23
15. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT	24
16. REPORT ON THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2024 (ARTICLE 177, 193, 208).....	25

17. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT	25
18. REPORT ON THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2024 (ARTICLE 184)	26
19. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT	26
20. REPORT ON THE CONTEMPT OF COURT (REPEAL) BILL, 2024.....	27
21. THE NEXUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGIES, ISLAMABAD BILL, 2024	27
22. THE INTERNATIONAL EXAMINATION BOARD BILL, 2024	35

NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN ASSEMBLY DEBATES

Tuesday, the 21st January, 2025

The National Assembly of Pakistan met in the National Assembly Hall (Parliament House) Islamabad, at 3:03 p.m. with the honourable Speaker (Sardar Ayaz Sadiq) in the Chair.

RECITATION FROM THE HOLY QUR`AN

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَآ
شِرِّعَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

(سورة النساء، آیات: 64 تا 65)

[ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے

والا ہے۔

اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ ﷺ بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا (اور) مہربان پاتے۔ تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو، اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں، بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔]

RECITATION OF HADITH

۶۹۹- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : // لَا تَقَاطَعُوا // وَلَا تَدَابُرُوا
 وَلَا تَبَاغَضُوا // وَلَا تَحَاسَدُوا
 وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا // وَلَا
 يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ تَوَقُّ
 ثَلَاثٍ // مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

[ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تم قطع تعلقات نہ کرو اور نہ ایک دوسرے سے دشمنی کرو، نہ آپس میں بغض رکھو اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرنے والے بنو، اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین روز سے زیادہ چھوڑے۔]

RECITATION OF NAAT

محبوب ہے کیا صل علیٰ نام محمد
 آنکھوں کی ضیادل کی جلا نام محمد
 طوفاں سے وہیں پار ہوئی نوح کی کشتی
 جب نوح نے کشتی پر لکھا نام محمد
 تقدیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں
 ہے نام الہی سے ملا نام محمد

NATIONAL ANTHEM

FATEHA PRAYERS

جناب سپیکر: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ! پیر فضل شاہ جیلانی صاحب کے بہنوئی صاحب کا انتقال ہو گیا اور جو جو لوگ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں، میں محترم حنیف عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا کروادیں۔

(دعاے مغفرت کی گئی)

LEAVE OF ABSENCE

Mr. Speaker: Leave applications.

Mr. Speaker: Malik Muhammad Iqbal has requested for the grant of leave from 13th to 16 January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Haji Imtiaz Ahmed Choudhry has requested for the grant of leave from 14th to 17th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Dr. Shazia Sobia Aslam Soomro has requested for the grant of leave for 14th and 17th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Zahoor Hussain Qureshi has requested for the grant of leave for 15th and 16th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Ms. Shandana Gulzar Khan has requested for the grant of leave for 16th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Nadeem Abbas has requested for the grant of leave from 17th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Usama Hamza has requested for the grant of leave for 17th and 20th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Zulfiqar Bachani has requested for the grant of leave for 17th and 20th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Ms. Shagufta Jumani has requested for the grant of leave for 20th and 21st January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Pir Aftab Hussain Shah Jilani has requested for the grant of leave from 20th to 24th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Muhammad Mueen Watto has requested for the grant of leave from 13th to 17th and 20th to 22nd January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. M. Sana Ullah Khan Mastikhel has requested for the grant of leave from 14th to 16th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Amjad Ali Khan has requested for the grant of leave for 15th to 16th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mir Amir Ali Khan Magsi has requested for the grant of leave for 20th to 27th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Shazia Marri has requested for the grant of leave for 16th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Asad Qaiser has requested for the grant of leave for 17th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Azim Uddin Zahid has requested for the grant of leave for 20th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Sahibzada Sibghatullah has requested for the grant of leave from 21st January, 2025 till the conclusion of the Session. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Ms. Aniqah Mehdi has requested for the grant of leave from 20th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Choudhary Iftikhar Nazir has requested for the grant of leave from 14th January, 2025 till the conclusion of the Session. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Sahibzada Muhammad Hamid Raza has requested for the grant of leave for 20th and 21st January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Sardar Muhammad Yousaf Zaman has requested for the grant of leave for 16th and 20th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Dr. Mahreen Razzaq Bhutto has requested for the grant of leave from 17th to 21st January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Syed Waseem Hussain has requested for the grant of leave for 16th and 17th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Khawaja Sheraz Mehmood has requested for the grant of leave from 15th to 17th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Mehmood Khan Achakzai has requested for the grant of leave from 21st to 24th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Sanjay Perwani has requested for the grant of leave for 23rd and 24th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Farhan Chishti has requested for the grant of leave from 17th January, 2025 till the conclusion of the Session. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Chaudhry Tariq Bashir Cheema has requested for the grant of leave for 21st and 22nd January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Shehryar Afridi has requested for the grant of leave for 14th, 15th and 17th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Malik Shakir Bashir Awan has requested for the grant of leave from 13th to 17th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Sayed Sami Ullah has requested for the grant of leave from 14th to 22nd January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Muhammad Abdul Ghaffar Watto has requested for the grant of leave from 13th to 20th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Dr. Nikhat Shakeel Khan has requested for the grant of leave for 14th and 15th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Shahid Usman has requested for the grant of leave from 15th to 17th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Ehsan Ul Haq Bajwa has requested for the grant of leave from 21st January, 2025 till the conclusion of the Session. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Saad Waseem has requested for the grant of leave for 20th and 21st January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Mr. Kesoo Mal Kheal Das has requested for the grant of leave for 16th and 17th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted.)

honourable guest جناب سپیکر: میں ایک announcement کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے

یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔۔۔۔

(مداخلت)

**CALLING ATTENTION NOTICE REG: PERSISTENT GENDER GAP
BETWEEN MALE AND FEMALE VOTERS, WHICH CONTINUES TO
EFFECT WOMEN'S FULL PARTICIPATION IN THE ELECTORAL
PROCESS**

Mr. Speaker: Asia Naz Tanoli, Calling Attention Notice.

محترمہ آسیہ ناز تنولی: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ وزیر برائے پارلیمانی امور کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والی فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے جو مرد و خواتین ووٹروں کے مابین مسلسل پائے جانے والے صنفی فرق جس سے انتخابی عمل میں خواتین کی مکمل شراکت متاثر ہو رہی ہے، اس سے متعلق ہے۔

جناب سپیکر: جی اعظم نذیر تارڑ صاحب Minister for Parliamentary Affair to
make a brief statement. اعظم صاحب کا mike کھولیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا mike
کھولیں۔ جی۔

وزیر برائے قانون و انصاف، انسانی حقوق و پارلیمانی امور (سینیٹر اعظم نذیر تارڑ): بڑے اچھے ایک issue
کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔ 2018 میں جو gender gap تھا وہ 11.8% تھا اور Election
Commission of Pakistan اور NADRA نے مل کے جب effort کی، تو ابھی 2024 کے
انتخابات میں الحمد للہ یہ gap کم ہو کے 7.4% پہ چلا گیا ہے۔ اس کے لیے 113 ایسے اضلاع کی نشاندہی کی گئی تھی۔
جن اضلاع میں NADRA کے تعاون سے National Identity Cards کو بنانے کا عمل تیز کیا گیا اور یہ
10% سے زیادہ gap والے 113 اضلاع جو ہیں، وہ کم ہو کر 2024 کے الیکشن میں صرف اور صرف 30 رہ گئے
ہیں۔ اور جو 83 اضلاع ہیں وہ 10% سے نیچے چلے گئے۔ یہ ایک ongoing process ہے اور ہم یہ توقع رکھتے
ہیں کہ NADRA اور دیگر حکومتی محکموں کے تعاون سے یہ gap اور نیچے آئے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کچھ

قبائل میں اس معاملے میں حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اس کے لیے بھی legal provisions موجود ہیں جن پہ عمل درآمد ہوتا ہے اور کئی دفعہ re-poll بھی کروائے گئے ہیں۔

Election Commission of Pakistan اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس gap کو کم سے کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور حکومت ہر قسم کا تعاون کر رہی ہے۔ بہت شکریہ جناب سپیکر۔ بہت شکریہ۔

جناب سپیکر: محترمہ آسیہ ناز تنولی صاحبہ ایک سوال کیجئے۔

محترمہ آسیہ ناز تنولی: سر! میں یہ کہنا چاہوں گی کہ Election Commission کی website پہ اگر آپ جاتے ہیں تو اس وقت 7 کروڑ 11 لاکھ لگ بھگ مردوں کے vote register اور 6 کروڑ 10 لاکھ کے قریب خواتین کے ووٹ ہیں۔ آج بھی یہ difference ایک کروڑ کا ہے۔ سر! پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے خواتین بہت زیادہ ہیں اور اگر آپ اس معاملے کو google پر search کریں تو 2014 سے آپ کے سامنے یہ آنا شروع ہو جائے گا کہ Election Commission اور حکومت مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ ابھی تک جوں کا توں ہے۔

سر! 2013-14 میں بھی اور آج بھی یہ مسئلہ قائم ہے۔ جو پالیسیاں بنائی گئی ہیں اس پر ابھی تک عمل درآمد جو ہوا ہے اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اتنی کارآمد ثابت نہیں ہوئیں۔ ابھی جو Minister صاحب نے کہا ہے کہ 10% والی خواتین جو ہیں، یا جہاں پہ 10 فیصد تک خواتین کا ووٹ درج چکا ہے۔ تو اس کو 25 فیصد تک کر دینا چاہیئے، سر یہ بہت ضروری ہے۔

اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گی کوئی ایسا framework ہونا چاہیئے جو کہ تین مہینے، چھ مہینے یا سال کے بعد، اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی timeframe دیکھ لینا چاہیئے۔

سر! Election Commission! کا 2017 Act, Rule no. 9 جس حلقے میں خواتین کے ووٹ 10 فیصد سے کم ہیں وہاں خواتین کے حوالے سے دوبارہ voting کرائی جائے جیسا کہ Minister صاحب نے بھی کہا۔ لیکن سر بلوچستان اور KP کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جس میں ابھی تک یہ ہے نہیں ہوا۔

سر! ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ یا تو پارلیمانی کوئی ایسی کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ اس کا follow up رکھے اور اس کے بارے میں جتنی بھی تفصیلات ہیں اس سے Parliament کو آگاہ کیا جائے تاکہ آنے والے elections میں اس طرح کے کوئی problems نہ ہوں اور اس کے اوپر اچھے طریقے سے عمل درآمد ہو۔ سر! اس سلسلے کو ختم ہونے دینا چاہیے اور خواتین voters جو ہیں ان کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا حق ہونا چاہیے اور ایسے علاقوں میں باقاعدہ طور پر نگرانی بہت ضروری ہے۔

اس حوالے سے Minister صاحب یہ بتائیے کہ Election Commission آنے والے وقت کے لیے کیا اقدامات کرے گا اور پارلیمانی کمیٹی ضرور ہونی چاہیے، یہاں پہ کمیٹی قائم ہونی چاہیے۔

جناب سپیکر: ڈاکٹر طارق صاحب، ڈاکٹر صاحب، جی اعظم تارڑ صاحب۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: میں نے جیسے جناب سپیکر عرض کیا ہے کہ Election Commission of Pakistan نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، انہوں نے جو gender gap تھا وہ 15-16 percent سے نیچے آتے آتے اب 7% پہ آچکا ہے۔

اور میرے خیال میں ہمیں اسے appreciate کرنا چاہیے اور جہاں تک تعلق ہے کہ Election Commission مزید کیا کرے گا اس میں ان شاء اللہ العزیز آنے والے مہینوں اور سالوں میں مزید فرق نظر آئے گا۔ ایک awareness campaign بھی شروع کرائی گئی ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ NADRA کو active کیا گیا ہے اور mobile units بھیجے جاتے ہیں مختلف دیہات میں۔ یہ ان شاء اللہ العزیز جیسے 2018 اور 2024 کے انتخابات میں فرق نظر آیا ہے، جو انتخابات 2029 میں ہوں گے اس میں یہ gap اور ان شاء اللہ نیچے آجائے گا، ان شاء اللہ العزیز۔ بہت شکر یہ۔

جناب سپیکر: محترمہ نزہت صادق صاحبہ۔ to ask one question.

محترمہ نزہت صادق: بہت شکر یہ سپیکر صاحب۔ جواب میں Minister صاحب نے بتایا ہے کہ صرف 30 اضلاع رہ گئے ہیں اور efforts جاری ہیں کہ وہ اس gap کو کم کر لیں گے اور خواتین کو CNIC بنانے میں مدد ملے گی۔

آج میری نظر پڑی تھی ایک خبر کے اوپر جو کہ خوش آئند بات ہے کہ NADRA نے launch کیا ہے biker service اس کے بارے میں میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ یہ جو biker service ہے، یہ میں نے سنا ہے کراچی میں start کی گئی ہے۔ کیا different شہروں میں اس کو replicate کیا جائے گا، جہاں گھر بیٹھے ہوئے یہ سہولت مہیا کی گئی ہے اور nominal fee کے اوپر آپ اپنا ID card بنا سکتے ہیں۔ اگر ایسی سہولت ہے تو خواتین کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگا، اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ بہت شکر یہ۔

Mr. Speaker: Minister for Law.

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: جی بہت شکر یہ نزہت صادق صاحبہ۔ بالکل NADRA نے جو special لوگ ہیں home service, the people with disabilities کے لیے special needs اور ان کے لیے the service at your door step شروع کی ہے اور NADRA کے agents جو ہیں یا جو officials ہیں وہ گھروں پہ جا کے ان کے biometrics، تصویر اور CNIC بنانے یا اس کو renew کرنے کا عمل ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔

یہ gender specific نہیں ہے یعنی کہ خواتین کی حد تک نہیں ہے۔ البتہ جو people with special needs ہیں یا ایسے لوگ جو کہ نکل نہیں سکتے وہاں سے ان کے لیے کیا گیا ہے۔ NADRA سے ہم take-up کرتے ہیں کہ ایسی خواتین جو کہ نہیں پہنچ سکتی دفاتر تک کسی وجہ سے، ان تک کہ یہ سہولت فراہم کی جائے اور ان شاء اللہ العزیز اس میں اضافہ کیا جائے گا اور اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا ان شاء اللہ العزیز۔

جناب سپیکر: جی شکریہ۔ زہر اودود فاطمی صاحبہ۔ جی۔

محترمہ زہر اودود فاطمی: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ سپیکر صاحب! Minister صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ جو NADRA اور Election Commission مل کر اگر ہو سکے، اگر ہو سکے تو یونین کو نسل میں مل کر کرنا چاہیے کیونکہ ہماری بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کی تعلیم اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ پڑھ کر نام بتا سکیں اور ان کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ان کو اپنی electoral list میں ان کا اپنا نام نظر نہیں آتا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا Election Commission اور NADRA مل کر ایک ایسی کمیٹی بنائیں جس کا کام ہوگا، ان عورتوں کو awareness دینا اور ان کو بتانا کہ کس طریقے سے ووٹ پڑتا ہے اور کہاں پہ جا کر ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کیونکہ ایسے علاقے جو کہ دور دراز ہیں وہاں پہ عورتوں کو بہت problem ہو جاتی ہے۔ تو یہ اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔

جناب سپیکر: جی۔ اعظم صاحب کیا یہ ہو سکتا ہے؟

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: دیکھئے Sir! Already یہ بھی جو campaign ہے، یہ جو ووٹروں کا اندراج ہے، NADRA اس میں update کرتا ہے automation کے ذریعے سے بھی اور آپ کے electoral votes کے جو relevant provisions ہیں Election Act میں، Section 25 ہے، 37 ہے، ان میں یہ سارا mechanism دیا گیا ہے۔ Already یہ کام automated بھی ہے

اور خود سے کیا جاتا ہے، جہاں پر کوئی further ضرورت پڑتی ہے وہاں پر معاون عملہ بھی موجود ہوتا ہے جو اُن کو assist کرتے ہیں اور ناخواندہ voters کیلئے سہولت دیتے ہیں، بہر کیف یہ اچھی تجاویز ہیں، میں یہ تجاویز Election Commission کے ذریعے NADRA تک ضرور پہنچاؤں گا۔

جناب سپیکر: شائستہ خان صاحبہ ایک سوال کیجئے۔

محترمہ شائستہ خان: شکریہ، منسٹر صاحب نے بہت ہی اچھی طرح explain کیا ہے لیکن still the gender gap between male and female voter is a pressing issue right now in Pakistan۔ میری اُن سے یہ گزارش ہے کہ جو یہ بتایا گیا ہے کہ 10% سے کم جہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پر elections ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے polling stations ہوتے ہیں جن میں female نے بالکل vote cast نہیں کیا ہوتا اور باقی gap کو اُس طریقے سے ختم کرتے ہیں کہ باقی polling stations کے ساتھ اس کو merge کر کے اس gap کو ختم کر دیا جاتا ہے، kindly اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور اس قانون کو اتنا tighten کیا جائے کہ جو بھی constituency ہوتی ہے وہاں کی political parties کو اور جو ہمارے candidates ہوتے ہیں ان پر زیادہ توجہ دی جائے اور انہیں کہا جائے کہ اس عمل میں وہ ایک بہترین کردار ادا کر سکیں تاکہ مزید transparency اور accountability آجائے۔ میں خیبر پختونخوا سے ہوں اور اس دفعہ جو وہاں خیبر پختونخوا کا جو gender based turn out تھا it is almost 15.7% تو جو rural areas کی females ہیں ان کیلئے۔

Mr. Speaker: Minister for Parliamentary Affairs.

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: جناب سپیکر آپ کو یاد ہو گا کہ اس کے اوپر ایک Electoral Reform Committee پچھلے دور حکومت میں قائم کی گئی تھی، آپ ہی نے اس کمیٹی کو chair کیا تھا، اس میں دیگر

reforms کے ساتھ ساتھ اس relevant provision کو بھی دوبارہ دیکھا گیا تھا اور اب یہ قانون کا حصہ ہے کہ جہاں پر خواتین کے votes کا turnout ایک خاص percentage سے کم جاتا ہے وہاں پر re-poll کیا جاتا ہے اور وہ نتیجہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اس بابت ہر قسم کی احتیاط برتی گئی ہے اور قانون میں بھی اس کو مناسب طریقے سے deal کیا گیا ہے۔

اس میں ہمارے کچھ سماجی اور معاشرتی پہلو ہیں وہ میرے خیال میں جب تک ہم اس پر اچھی awareness campaigns نہیں کرتے، رویے تبدیل نہیں کرتے، تو یہ تھوڑا issue رہے گا لیکن الحمد للہ پہلے کی نسبت یہ بہت بہتر ہے۔

CALLING ATTENTION NOTICE REG: SHORTAGE OF MEDICAL EQUIPMENT, INCLUDING ESSENTIAL ITEMS LIKE VENTILATORS, TESTING MACHINES AND GENEXPERT SYSTEM IN PIMS, ISLAMABAD, THE FEDERAL GOVERNMENT POLYCLINIC, ISLAMABAD AND OTHER FEDERALLY ADMINISTERED HOSPITALS

جناب سپیکر: عالیہ کامران صاحبہ آپ کا Calling Attention کئی دن سے نہیں آرہا تو پہلے یہ لے لیتے

ہیں۔ عالیہ کامران صاحبہ۔

محترمہ عالیہ کامران: بہت شکریہ، میں وزیر برائے قومی صحت خدمات، ضوابط و معاونت کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملہ کی جانب دلاؤں گی جو PIMS, Islamabad, Federal Government Polyclinic, Islamabad اور وفاق کے زیر انتظام دیگر ہسپتالوں میں طبی آلات بشمول ضروری اشیاء جیسے ventilators, testing machines and GeneXpert system کی قلت سے متعلق ہے۔

Mr. Speaker: Parliamentary Secretary Nelson Azeem Sahib.

پارلیمانی سیکرٹری برائے قومی وزارت ضوابط، ربط باہمی و خدمات صحت عامہ (جناب نیلسن عظیم): شکریہ، بڑے دنوں سے یہ Calling Attention آرہا ہے، یہاں پر میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اس وقت equipment کی کوئی بھی shortage نہ PIMS میں ہے، نہ Polyclinic میں ہے، نہ دوسرے جو federal hospitals ہیں ان میں ہے، یہ اخباری بیان ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے otherwise کوئی shortage نہیں ہے۔ یہاں پر ICUs میں incubators بھی ہیں، لیبارٹری کی ساری مشینیں موجود ہیں، ultrasound بھی ہے، MRI machines بھی موجود ہیں، gases کی مشینیں بھی موجود ہیں اور کسی قسم کی کوئی shortage ہمارے اداروں میں نہیں ہے۔

جناب سپیکر: عالیہ کامران صاحبہ ایک سوال کیجئے۔

محترمہ عالیہ کامران: سر! یہ کہہ رہے ہیں کہ shortage نہیں ہے، ٹھیک فرما رہے ہوں گے۔ میری اطلاعات کے مطابق جو پچھلا COVID آیا تھا اس میں NIH کے اندر ventilators اور اس طرح کے دیگر طبی آلات dump پڑے ہوئے ہیں اور ان کی کافی تعداد ہے۔ یہ جو dump ventilators اور طبی آلات پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ان کی نوعیت کیا ہے؟ ان کو ہم کیوں دوبارہ استعمال میں نہیں لا سکتے؟ ابھی جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر پھر COVID کی ایک لہر آرہی ہے تو ہم کیوں اس چیز کیلئے پہلے سے prepare نہیں ہو رہے اور وہ اشیاء جو کسی donors نے donate کی ہیں یا NIH کے اندر آئیں تھیں، وہ وہاں پر dump کیوں ہیں؟ ان اشیاء کی نوعیت کا بتایا جائے اور ان کو دوبارہ سے استعمال کے قابل بنا کر عوام کے استعمال میں جلد از جلد لایا جائے تاکہ لوگوں کا health کی facility پر اعتماد برقرار رہ سکے۔

جناب سپیکر: نیلسن عظیم صاحب۔

جناب نیلسن عظیم: سر! اداروں میں incubators ہیں، اُن میں operation theater کی مشینیں ہیں، لیبارٹری کی ہیں، KBS بھی ہے اور Hepatitis B, C اور HIV کا ٹیسٹ کرنے والی ساری مشینیں ہسپتالوں میں ہیں۔ PIMS میں بھی موجود ہیں، Polyclinic میں بھی موجود ہیں اور دوسرے ہسپتالوں میں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کسی ہسپتال کی specific بتائیں تو میں اس کی detail آپ کو بتا دوں گا۔

جناب سپیکر: نفیسہ شاہ صاحبہ 3. to move Item No. 3 موجود نہیں، سہیل سلطان صاحب نے deferment کی request کی ہے، یہ 2 items دونوں defer ہیں۔ Shazia Marri Sahiba۔
to move Item No. 07.

THE QANUN-E-SHAHADAT (AMENDMENT) BILL, 2025

Shazia Marri: I move for leave to introduce a Bill further to amend the Qanun-e-Shahadat Order, 1984 [The Qanun-e-Shahadat (Amendment) Bill, 2025].

Mr. Speaker: Minister for Law do you oppose it?

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: ان کی اچھی effort ہے لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ اس بابت ایک exhaustive law reform package وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر تیار کیا گیا، جس پر بہت زیادہ کام ہوا اور کیبنٹ نے اس کی approval دے دی ہے وہ بھی ان شاء اللہ العزیز House میں introduce ہونے جا رہا ہے، یہ معاملہ کمیٹی کو refer کر دیا جائے تاکہ اگر کوئی overlapping ہے تو دیکھ لی جائے گی۔

Mr. Speaker. Now, I put the Motion to the House. The question is that the leave to introduce a Bill further to amend the

Qanun-e-Shahadat Order, 1984 [The Qanun-e-Shahadat (Amendment) Bill, 2025], be granted.

(The leave was granted.)

Mr. Speaker: Shazia Marri to move Item No. 08.

Shazia Marri: I introduce the Bill [The Qanun-e-Shahadat (Amendment) Bill, 2025].

Mr. Speaker: The Bill in question stands introduced.

(The Bill was introduced.)

جناب سپیکر: سہیل سلطان صاحب کا defer ہو گیا، شاہدہ رحمانی صاحبہ کا 11 Item No. ہے not present, Sahibzada Sibghatullah Item No. 13, not present drop Shahida Rehmani Sahiba Item No. 15, not present. Naveed Aamir Sahib to move Item No. 17.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2025 (ARTICLE 59)

Mr. Naveed Aamir: I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2025] (Article 59).

جناب سپیکر: Parliamentary Affairs کے منسٹر صاحب Constitutional

Amendment ہے۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: اگر تو یہ وہی بل ہے جو ایک بل پہلے کمیٹی نے consider کیا ہوا ہے اور شاید اس کی رپورٹ بھی lay ہو رہی تھی، اگر جیو صاحب اس کے تھوڑے خدو خال بیان کریں کہ یہ کس مقصد کیلئے کر رہے ہیں۔ اگر mover تھوڑا بیان کر دے کہ اس کے خدو خال کیا ہیں۔

جناب سپیکر: جیو صاحب یہ Constitutional Amendment ہے، بیرسٹر صاحب کیلئے ذرا

بتائیے اس کے salient features کیا ہیں؟

جناب نوید عامر: اس میں گزارش یہ ہے کہ سینٹ میں چاروں صوبوں سے minorities کیلئے ایک ایک

سیٹ مختص کرنے کیلئے، اُن کی نمائندگی کو مزید ensure کرنے کیلئے اس کو propose کیا گیا ہے اور ایک

Senate of Pakistan سے Capital of Islamabad سے propose کی گئی ہے۔ تو یہ

minorities کی representation میں اضافے کا بل introduce کیا گیا ہے۔

Mr. Speaker: Minister for Parliamentary Affairs.

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: سر! یہ identical Bill یہ already process میں ہے۔ اس کو

defer کر دیں۔

جناب سپیکر: میرا خیال ہے اس کو defer کر دیتے ہیں۔ آپ جیو صاحب سے بات کر لیں۔ جیو صاحب

اس کو defer کرتے ہیں، آپ منسٹر صاحب سے بات کر کے پھر لانا ہوا تو پھر لے آئیں گے۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: یہ identical Bill ہے۔ جیو صاحب۔

جناب نوید عامر: جناب سپیکر! اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے تاکہ اس کو consult بھی کر لیا جائے اور اس

پر غور و خوض کر لیا جائے۔

جناب سپیکر: اعظم صاحب۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: جیو صاحب headphone use نہیں کر رہے ہیں، وہ سن نہیں رہے ہیں۔ یہ

کمیٹی کے لیے کہہ رہے ہیں یہ already under consideration ہے اسے defer کر دیا جائے

میری request ہوگی۔

جناب سپیکر: جیو صاحب اس کو defer کرتے ہیں، آپ ان سے مشاورت کر لیں۔ نہیں پھر لے آئیں گے۔ اس کو صرف defer کر رہے ہیں۔

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

Mr. Speaker: Ch. Mahmood Bashir Virk, Chairman Standing Committee on Law and Justice to move Item No. 19.

Ch. Mahmood Bashir Virk: I move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2024] (Article 27), till today be condoned.

Mr. Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2024] (Article 27), till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2024 (ARTICLE 27)

Mr. Speaker: Ch. Mahmood Bashir Virk, Chairman Standing Committee on Law and Justice to move Item No. 20.

Ch. Mahmood Bashir Virk: I present the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the

Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2024] (Article 27).

Mr. Speaker: The report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2024] (Article 27) stands presented.

**MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE
PRESENTATION OF REPORT**

Mr. Speaker: Ch. Mahmood Bashir Virk, Chairman Standing Committee on Law and Justice to move Item No. 21.

Ch. Mahmood Bashir Virk: I move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2024] (Article 51, 59, 106), till today be condoned.

Mr. Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2024] (Article 51, 59, 106), till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

**REPORT ON THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2024
(ARTICLE 51,59, 106)**

Mr. Speaker: Ch. Mahmood Bashir Virk, Chairman Standing Committee on Law and Justice to move Item No. 22.

Ch. Mahmood Bashir Virk: I present the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2024] (Article 51, 59, 106).

Mr. Speaker: The report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2024] (Article 51, 59, 106) stands presented.

**MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE
PRESENTATION OF REPORT**

Mr. Speaker: Ch. Mahmood Bashir Virk, Chairman Standing Committee on Law and Justice to move Item No. 23.

Ch. Mahmood Bashir Virk: I move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2024] (Article 177, 193, 208), till today be condoned.

Mr. Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2024] (Article 177, 193, 208), till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2024
(ARTICLE 177, 193, 208)

Mr. Speaker: Ch. Mahmood Bashir Virk, Chairman Standing Committee on Law and Justice to move Item No. 24.

Ch. Mahmood Bashir Virk: I present the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2024] (Article 177, 193, 208).

Mr. Speaker: The report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2024] (Article 177, 193, 208) stands presented.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE
PRESENTATION OF REPORT

Mr. Speaker: Ch. Mahmood Bashir Virk, Chairman Standing Committee on Law and Justice to move Item No. 25.

Ch. Mahmood Bashir Virk: I move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2024] (Article 184), till today be condoned.

Mr. Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the

Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2024] (Article 184), till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2024
(ARTICLE 184)

Mr. Speaker: Ch. Mahmood Bashir Virk, Chairman Standing Committee on Law and Justice to move Item No. 26.

Ch. Mahmood Bashir Virk: I present the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2024] (Article 184).

Mr. Speaker: The report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [The Constitution (Amendment) Bill, 2024] (Article 184) stands presented.

MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE
PRESENTATION OF REPORT

Mr. Speaker: Ch. Mahmood Bashir Virk, Chairman Standing Committee on Law and Justice to move Item No. 27.

Ch. Mahmood Bashir Virk: I move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the Bill to repeal the Contempt of Court Ordinance, 2003 (V of 2003) [The Contempt of Court (Repeal) Bill, 2024], till today be condoned.

Mr. Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the

Standing Committee on the Bill to repeal the Contempt of Court Ordinance, 2003 (V of 2003) [The Contempt of Court (Repeal) Bill, 2024], till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

REPORT ON THE CONTEMPT OF COURT (REPEAL) BILL, 2024

Mr. Speaker: Ch. Mahmood Bashir Virk, Chairman Standing Committee on Law and Justice to move Item No. 28.

Ch. Mahmood Bashir Virk: I present the report of the Standing Committee on the Bill to repeal the Contempt of Court Ordinance, 2003 (V of 2003) [The Contempt of Court (Repeal) Bill, 2024].

Mr. Speaker: The report of the Standing Committee on the Bill to repeal the Contempt of Court Ordinance, 2003 (V of 2003) [The Contempt of Court (Repeal) Bill, 2024] stands presented.

Mr. Speaker: Item No. 31. Sheikh Aftab Ahmed Sahib, deferred.

THE NEXUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGIES, ISLAMABAD BILL, 2024

Mr. Speaker: Mr. Anjum Aqeel Khan to move Item No. 33.

Mr. Anjum Aqeel Khan: I move that the Bill to establish the Nexus International University of Health Emerging Sciences and Technologies, Islamabad [The Nexus International University of Health Emerging Sciences and Technologies, Islamabad Bill,

2024], as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Minister for Federal Education, do you oppose it? Minister for Law.

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: مجھے جو instructions ہیں خالد مقبول صاحب بیٹھے ہیں میں ان سے عرض کروں گا، خالد مقبول صاحب اگر headphones لگالیں۔ میرا mic ذرا کھلا رکھیں۔

جناب سپیکر: کھلا ہوا ہے۔ خالد صاحب یہ Item No. 33 ہے۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: خالد صاحب یہ Item No. 33 ہے اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی کے قیام کا Bill ہے۔ انجم عقیل صاحب پیش کر رہے ہیں۔ جو مجھے instruction تھی کہ شاید آپ کی Ministry سے اور Higher Education Commission سے NOC ہے۔ Its Islamabad based لیکن آپ اس پر خود بیان دیں گے۔

جناب سپیکر: خالد مقبول صدیقی صاحب۔

وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی، وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت (جناب خالد مقبول صدیقی): جناب! تمام بل جو یہاں یونیورسٹیوں کے آرہے ہیں، جو HEC نے اجازت دے دی ہے اور Standing Committee کی طرف سے اور انکی طرف سے okay ہے۔

جناب سپیکر: اس کو آپ oppose کر رہے ہیں، یا نہیں؟

جناب خالد مقبول صدیقی صاحب: نہیں oppose نہیں کر رہے ہیں۔

جناب سپیکر: اچھا oppose نہیں کر رہے ہیں۔

Mr. Speaker: Now, I put the Motion to the House. The question is that the Bill to establish Nexus International University of Health Emerging Sciences and Technologies, Islamabad [The Nexus International University of Health Emerging Sciences and Technologies, Islamabad, Bill, 2024] as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once.

(The Motion was adopted.)

Mr. Speaker: Clause by clause reading. The Bill is now taken up clause by clause.

Mr. Speaker: Clause 2. Now, I put clause 2 to the House. The question is that clause 2, do stand part of the Bill.

(The clause 2 stands part of the Bill.)

Mr. Speaker: Amendment. There is an amendment in clause 3. Azam Sahib and Health Minister Sahib there is an amendment in clause 3, standing in the name of Ms. Aliya Kamran Sahiba. Aliya Sahiba to move the amendment.

محترمہ عالیہ کامران: جی سر! میں amendment move کروں؟

جناب سپیکر: جی آپ move کیجئے۔

محترمہ عالیہ کامران: سر! میں amendment کو read کروں یا move کر دوں؟

جناب سپیکر: پہلے move کیجئے، پھر بتادیں گے کہ amendment کیا ہے۔

Ms. Aliya Kamran: Ok Sir! Sir, I move that in the Nexus International University of Health Emerging Sciences and

Technologies, Islamabad Bill, 2024, as reported by the Standing Committee, in clause 3, for sub-clause (5), the following shall be substituted namely:-

“(5) The principal seat of the University shall be situated in Islamabad. The University may establish any number of campuses, both within and outside the country. If such establishments are located within the territorial limits of any province or other administrative entity, their locations shall be determined by the Board of Governors, subject to the prior approval of the respective provincial government, the government of the respective entity, and the Higher Education Commission (HEC).”.

Mr. Speaker: Minister Sahib do you oppose it?

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: سر! وزیر تعلیم کی اجازت سے یہ طے ہوا تھا کہ آئندہ ہم یہ احتیاط کریں گے کہ جو

research institutes کے علاوہ جو universities ہیں، قومی اسمبلی وہ پاس کرے جو Islamabad Capital Territory میں education impart کریں۔ وزیر تعلیم موجود ہیں، ایک principle decision ہے، اور main Bill میں بھی نہیں ہے۔ میں یہ request کروں

گا کہ this amendment may not be carried out.

Mr. Speaker: Minister for Education, Mr. Khalid Sahib.

جناب خالد مقبول صدیقی: جناب! actually یہ طے ہو چکے ہیں اور یہ اس میں آیا بھی نہیں تھا، تو اس کی

اجازت نہیں دی جاسکتی ہے۔ I will oppose it.

Mr. Speaker: Now, I put the amendment, as moved by Aliya Kamran to the House. The question is that the amendment, as moved, be adopted.

(The amendment was rejected.)

Mr. Speaker: Clause 3. Now, I put clause 3 to the House. The question is that clause 3, do stand part of the Bill.

(The clause 3 stands part of the Bill.)

Mr. Speaker: Clause 4. Now, I put clause 4 to the House. The question is that clause 4, do stand part of the Bill.

(The clause 4 stands part of the Bill.)

Mr. Speaker: Clause 5. There is an amendment in clause 5, standing in the name of Syed Rafiullah, MNA. Rafiullah Sahib please move the amendment.

سید رفیع اللہ: سر! یہ 33 کی بات ہو رہی ہے؟

جناب سپیکر: جی 33 کی بات ہو رہی ہے۔

سید رفیع اللہ: سر! میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ قائمہ کمیٹی کی پیش کردہ رپورٹ کی صورت میں Nexus

international university کا جدید علوم صحت اور ٹیکنالوجی اسلام آباد میں شق نمبر 5 میں ذیلی شق 3

کو درج ذیل سے تبدیل کر دیا جائے۔

جناب سپیکر: خالد صاحب آپ کو سمجھ آئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ Do you oppose it?

جناب خالد مقبول صدیقی: میں اس کو oppose نہیں کر رہا، اس کو discuss کر لیا جائے۔

جناب سپیکر: اگر discuss کر لیا جائے تو Bill ابھی پاس ہو جائے گا۔ یہ تو ابھی discuss ہو سکتا ہے۔ رفیع صاحب ذرا اس کے salient features بتائیے اور keeping in mind آپ کو پتہ ہے کہ جو situation چل رہی ہے۔

سید رفیع اللہ: بہت شکریہ۔ سر میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ لیکن حسب معمول وہ عوامی کاموں کو ترجیح نہیں دیں گے، یہ شور شرابہ کرتے رہیں گے۔ ان کا مقصد وہی ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ جناب سپیکر صاحب! آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے مجھے موقع دیا تھا کہ ایک یونیورسٹی میں جو کہ وہ بچے جو میرٹ پر پورے اترتے ہیں، جو قابل بچے ہیں، لیکن financial کمزوری کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کو آگے نہیں پڑھا سکتے۔ سر! میری یہ درخواست ہے جو اس سے پہلے بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک یونیورسٹی پر support کی تھی، جو کہ 25 percent غریب اور نادار لوگوں کو، BISP پروگرام کے لوگوں کو۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس سے پہلے بھی own کیا تھا۔

جناب سپیکر: کتنے فیصد؟

سید رفیع اللہ: سر! 25 فیصد۔ اور یہ approve ہوا ہے۔ اس سے پہلے کافی یونیورسٹیز پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس کی approval دی تھی اور یہ ایک بہتر چیز ہے غریبوں کے لئے کہ غریب اور نادار لوگ اس سے فائدہ مند ہوں گے۔

Mr. Speaker: Minister for Parliamentary Affairs.

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: ایک overall model دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر اس کو minimum ten percent پر کر دیا جائے۔

جناب سپیکر: نوید صاحب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں 25 فیصد، یہ کہہ رہے ہیں 5 فیصد؟

If there is a number that they can be settled between the minister and the mover تو وہ کر دیں۔ اگر number پر settlement نہیں ہوتا، تو this can come as an amendment to the Bill.

جناب سپیکر: خالد مقبول صدیقی صاحب۔

جناب خالد مقبول صدیقی: دس فیصد لوگوں کے لئے، غریب لوگوں کے لئے تو پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ اس

سے زیادہ بڑھانی ہوگی تو HEC کو اس کا Ordinance لانا پڑے گا۔

جناب سپیکر: رفیع اللہ صاحب۔

سید رفیع اللہ: سر! میں نے HEC already کے لئے بھی Bill move کیا ہوا ہے۔ وہ ایجوکیشن

کمیٹی میں ہے۔

جناب سپیکر: رفیع اللہ صاحب 10 فیصد پر agree کر جائیں۔

سید رفیع اللہ: سر! 15 پر کر لیں، غریب لوگوں کا مسئلہ ہے، زیادہ فائدہ ہوگا۔

جناب سپیکر: پھر ان کو سارا کچھ change کرنا پڑے گا، HEC میں جانا پڑے گا، اس کا قانون

change کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے نوید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 10 فیصد پر کر لیں۔ جی ٹھیک ہے۔ مشتاق

صاحب ان کی جو amendment ہے اس کو دس فیصد لکھتے ہیں۔ خالد صاحب، لاء منسٹر صاحب، دس فیصد۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: ٹھیک ہے۔

Mr. Speaker: Now, I put the amendment in clause 5.

جو رفیع اللہ صاحب کے نام پر اس میں 25 کو 10 سے substitute کریں گے۔

Mr. Speaker: Minister for Education, Professional Training has given consent. I put the amendment as moved by Rafiullah to the House. The question is that the amendment, as moved, be adopted.

(The amendment was adopted.)

(اذان عصر)

Mr. Speaker: Now, I put clause 5, as amended, to the House. The question is that clause 5, as amended, do stand part of the Bill.

(The clause 5, as amended, stands part of the Bill.)

Mr. Speaker: Clauses 6 to 47. Now, I put clauses 6 to 47 to the House. The question is that clauses 6 to 47 do stand part of the Bill.

(The clauses 6 to 47 stands part of the Bill.)

Mr. Speaker: Schedule. Now, I put the Schedule to the House. The question is that Schedule, do stand part of the Bill.

(The Schedule stands part of the Bill.)

Mr. Speaker: Clause 1, Preamble and Short Title. Now, I put clause 1, Preamble and Short Title, to the House. The question is that clause 1, Preamble and Short Title, do stand part of the Bill.

(The clause 1, Preamble and Short Title, stands part of the Bill.)

Mr. Speaker: Item No. 34. Anjum Aqeel Sahib please move Item No. 34.

Mr. Anjum Aqeel Khan: Thank you Mr. Speaker! I move that the Bill to establish the Nexus International University of Health Emerging Sciences and Technologies, Islamabad [The Nexus International University of Health Emerging Sciences and Technologies, Islamabad Bill, 2024], be passed.

Mr. Speaker: Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the Bill to establish the Nexus International University of Health Emerging Sciences and Technologies, Islamabad [The Nexus International University of Health Emerging Sciences and Technologies, Islamabad Bill, 2024], be passed.

(The Motion was adopted and consequently the Bill was passed.)

THE INTERNATIONAL EXAMINATION BOARD BILL, 2024

Mr. Speaker: Item No. 29. Rana Muhammad Qasim Noon Sahib please move Item No. 29.

Rana Muhammad Qasim Noon: Thank you Mr. Speaker! I move that the Bill to establish the International Examination Board [The International Examination Board Bill, 2024], as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Minister for Education do you oppose it?

جناب خالد مقبول صدیقی: اس پر تھوڑی سی discussion کر لیں تو بہت اچھا ہوگا۔

جناب سپیکر: قاسم نون صاحب اس کے salient features بتائیے، کیونکہ منسٹر صاحب اس سے

agree نہیں کر رہے ہیں۔

رانا محمد قاسم نون: جناب سپیکر! اس میں Standing Committee for Federal Education and Professional Training has given their consent انہوں نے consensus سے اس کو approve کیا ہے۔ یہ پاکستان کا جو foreign exchange international ادارے لیکر جارہے ہیں millions of dollars per annum یہ پاکستان کے اندر اگر international standards پر examinations ہوں گے تو foreign exchange کی بچت ہوگی اور quality standard کو meet کریں گے اور already private sector میں دو تین جو Examination Boards ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔

جناب سپیکر: اعظم نذیر تارڑ صاحب، Minister for Education کا خیال ہے کہ اس پر ابھی discussion کرنے کی ضرورت ہے۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: یہ prerogative ہے منسٹر ایجوکیشن کا اور میرے خیال میں اگر ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کو اگلے ایجنڈے پہ لیکر آئے گا۔ ابھی یہ سینیٹ سے بھی پاس ہونا ہے۔ اگر قاسم نون صاحب ایک میٹنگ کر لیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے، اب اگلے ایجنڈے پر آجائیں۔ اچھی effort ہے قاسم نون صاحب کی۔ میں نے دیکھا تھا کہ کمیٹی نے بھی اس کو recommend کر کے بھیجا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ parliamentary tradition ہے کہ جو منسٹر ان چارج ہیں اس میں ان کو on board ہونا چاہیے۔

Mr. Speaker: Minister for Education.

جناب خالد مقبول صدیقی: جناب سپیکر! میں اس idea کے ساتھ ہوں۔ لیکن یہ بڑا اہم move ہے۔ جس پر thorough discussion کی ضرورت ہے تاکہ ایک بار ہم بنائیں تو پھر یہ ناکام نہ ہو۔

جناب سپیکر: قاسم نون صاحب میرے خیال میں تجویز اچھی ہے۔ ایک دفعہ discussion کر لیجئے پھر ہم لیکر آئیں گے۔

Rana Muhammad Qasim Noon: Thank you Mr. Speaker! It is okay. I have no problem.

جناب سپیکر: ٹھیک ہے تو پھر اس کو ہم فی الحال take up نہیں کرتے۔

Mr. Speaker: The House is adjourned to meet again on Wednesday, the 22nd January, 2025, at 2:00 p.m.

(The House was adjourned to meet again on Wednesday, the 22nd January, 2025, at 2:00 p.m.)